



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 15/7/2022

گورنر HOCHUL نے عوامی پارکوں اور ساحلوں پر تمباکو نوشی پر پابندی کی قانون سازی پر دستخط کر دیے

قانونی مسودہ S.4142/A.5061 عوامی پارکوں اور ساحلوں پر تمباکو نوشی کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے

گورنر Kathy Hochul نے آج تمام سرکاری ساحلوں، بورڈ واکس، مریناز، کھیل کے میدانوں، تفریحی مراکز اور گروپ کیمپوں میں تمباکو نوشی پر پابندی عائد کرنے والے قانونی مسودہ (S.4142/A.5061) پر دستخط کیے۔ ان نامزد علاقوں میں تمباکو نوشی کی سزا کے طور پر \$50 کا سول جرمانہ کیا جائے گا۔ اس بل میں اڈیروئنڈاکس اور کیٹ سکلز کے ساتھ ساتھ پارکنگ لائسنس، پارکوں سے ملحقہ فٹ پاتھوں اور پارک کے مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے والے علاقوں کو پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

"تمباکو نوشی ایک خطرناک عادت ہے جو نہ صرف تمباکو نوشی کرنے والوں کو بلکہ ہماری ریاست کے عظیم عوامی مقامات سے لطف اندوز ہونے والے خاندانوں اور بچوں سمیت ہر شخص کو متاثر کرتی ہے،" گورنر Hochul نے کہا، "مجھے اس قانونی مسودے پر دستخط کرنے پر فخر ہے جو نیو یارک کے باشندوں کی صحت کا تحفظ کرے گا اور ریاست بھر کے عوامی پارکوں اور ساحلوں پر کچرے کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔"

بہت سی میونسپلٹیز اور مقامی حکومتوں نے پہلے ہی عوامی مقامات پر تمباکو نوشی پر بندشیں یا پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ یہ اضافی سزا ریاست بھر میں پابندی کو نافذ کرے گی اور اس میں ایک جرمانہ بھی شامل ہے جو مقامی ادارے وصول کریں گے۔

بالواسطہ تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والے صحت کے خطرات کے علاوہ، سگریٹ کے آخر میں بقایا رہ جانے والے ٹکڑے اپنے قدرتی طور پر گل کر ختم نہ ہونے والے فلٹرز کی وجہ سے ایک بڑا ماحولیاتی خطرہ ہیں۔ یہ صفائی کے منصوبوں کے دوران سب سے زیادہ ملنے والی چیز ہیں۔ اس پابندی کے ذریعے، ہمارے مقامی ماحولیاتی نظام کے ساتھ پارکوں اور ساحلوں کو بھی زیادہ صاف ستھرا اور محفوظ رکھا جائے گا۔

اسٹیٹ سینیٹر Toby Ann Stavisky نے کہا، "نیو یارک کے عوامی پارک خاندانی تفریح کے مقامات ہیں۔ کسی بھی شخص، خاص طور پر بچوں کو کھیل کے میدان میں کھیلتے ہوئے یا عوامی ساحل سمندر یا کیمپ سائٹ پر اپنے دن سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بالواسطہ تمباکو نوشی کا نشانہ نہیں بننا چاہیے ہمارے پارکوں کو بھی ان کے میدانوں میں بکھرے ہوئے سگریٹ کے آخر میں بقایا رہ جانے والے قدرتی طور پر گل کر ختم نہ ہونے والے ٹکڑوں سے داغدار نہیں ہونا چاہیے مجھے اپنے پارکوں کے خوبصورت نیٹ ورک کی حفاظت اور بہتری کے لیے اس قانون سازی کو مالی تعاون فراہم کرنے پر فخر ہے اور میں گورنر Hochul کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے پارکوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے میں نیو یارک کے باشندوں کی مدد کے لیے اس کو قانون میں شامل کیا۔"

رکن اسمبلی Jeffrey Dinowitz نے کہا، "نیو یارک کے باشندے تازہ ہوا اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے ہمارے پارکوں کا رخ کرتے ہیں۔ تمباکو نوشی اس کے برعکس ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ گورنر

Hochul نے پارکوں میں تمباکو نوشی پر اس اہم ریاستی پابندی پر دستخط کیے ہیں اور گزشتہ برسوں میں اس بل پر اہم حمایت کرنے پر اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔"

###

اضافی خبریں یہاں دستیاب ہیں www.governor.ny.gov
ریاست نیویارک | ایگزیکٹو چیمر | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov